© rasailojaraid.com

ڈاکٹر حافظ صفوان محمد چوہان

اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ

الفاظ وہ پہناوے ہیں جو ہم اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے یا محفوظ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لفظوں کے معنوں کی کئی تہیں ہوتی ہیں جو وقت گزرنے اور تجربہ بڑھتے رہنے کے ساتھ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ سیکھنے کا عمل ہے کہ ہر گزرنے والے دن اور ہر پیش آنے والے قومی، سماجی، ثقافتی یا انفرادی حادثے کے ساتھ لفظوں کے نئے مفاہیم سامنے لاتا رہتا ہے۔ لفظ اپنے مصادیق کے ساتھ زندہ رہتے ہیں؛ جہاں کوئی نقشِ کہن مٹا، کوئی دور گزرا، کوئی تہذیب برباد ہوئی، کوئی رسم ٹوٹی، کوئی بلندی بیٹھی، کوئی شعبۂ علم ختم ہوا یا کوئی بڑی ایجاد پرانی ہوئی، اِن سے متعلق بہت سے لفظ بھی وقت کے ساتھ فنا ہو جاتے ہیں۔

ہر زبان میں کچھ لفظ بنیادی ہوتے ہیں، یعنی اِن سے کئی اور لفظ پھوٹتے ہیں۔ اور ایسا ہر لفظ کسی ضرورتِ حادثہ کی پیداوار ہوتا ہے۔ چناں چہ ہر لفظ کی اپنی ثقافت ہوتی ہے، اور اُس کے بین الثقافتی مراسم ہوتے ہیں۔ پرانی تہذیبوں اور ثقافتوں کے آثار کی طرح کچھ لفظ بھی معدوم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس مخلوق کو کب فنا ہے، اور کس کی ممی کو ابھی کئی اور قرنوں تک محفوظ رہنا ہے۔ اوّل فنا، آخر فنا۔

اردو پانچ دریاؤں کی سرزمین اور اِس کے اردگرد کے علاقوں کی اپنی اور قابلِ صد فخر پیداوار ہے جو اوّلاً دکن و دہلی اور لکھنؤ تک پھیلی اور آج ہر برِ اعظم میں بولی جا رہی ہے، اور یہ بہ کثرت زبانوں اور بولیوں کو اپنے جلو میں سمیٹے ہوئے ہے۔

راقم کی اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو میں برِ عظیم پاک و ہند کی علاقائی بولیوں سمیت درجِ ذیل اِکتالیس (۴۱) زبانوں کے الفاظ باقاعدہ شامل ہیں: اطالوی، انگریزی، اوستائی، بلتی، بلوچی، بنگلہ، پراکرت، پرتگالی، پشتو، پنجابی، پوربی، تامل، ترکی، جاپانی، جرمن، چینی، دکھنی، روسی، ژند (قدیم ایرانی بولی)، سرائیکی، سُریانی، سندھی، سنسکرت، عبرانی، عربی، فارسی، فرانسیسی، کشمیری، گجراتی، لاطینی، لداخی، مارواڑی، مرہٹی، ملائی، نیپالی، ولندیزی، ہریانوی، ہسپانوی، ہندکو، ہندی، یونانی۔ عرب اور ترک آئے تو اردو نے اُن کی زبانوں کا رس نچوڑ لیا۔ یہ لوگ واپس گئے یا یہیں پیوندِ خاک ہوئے تو انگریز آ گئے۔ اور جب انگریز واپس گئے تو انگریزی یہیں رہ گئی جس سے ہم خوش فعلیاں کرتے ہیں، اور وہ جاتے جاتے کوہِ نور کے ساتھ ہمارے سیکڑوں دمکتے لفظ اور اُن کی کتنی ہی تصریفی صورتیں بھی لیتے گئے۔ یہ کھلا راز ہے کہ طہارتِ زبان

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

(Language Purism) کے حامی انگریزوں کو آج سب سے بڑا مسئلہ اردو کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور اردو کا جادو اُن کے سروں پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ (انگریزی کی پاکی داماں کی حکایت ۱۸۸۶ء میں Henry Yule اور Arthur C Burnell کی مرتّب کردہ Hobson-Jobson سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن اب یہ بات پرانی ہوئی۔ اب اوکسفرڈ تک نے اپنی لغات میں Supplement of Indian English شامل کرنا شروع کر کے گویا اپنے بندِ قبا کے کھلنے اور تردامنی کو تسلیم کر لیا ہے۔) رہی اردو بذاتِ خود، تو اِس کی صورت یہ بنی (یا بگڑی؟) ہے کہ اِس نے مولانا ابوالکلام آزاد کی زبان کی صورت میں تعریب وتفریس کی انتہا دیکھ لی، اور اب پنڈولم کی طرح لامحالہ دوسری انتہا یعنی انگریزیت کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیرِ قرآن میں (جو اردو میں ہے) عربی الفاظ کی فی صفحہ اوسط ۱۸۵ ہے، زبان کا بدلتا قبلہ دیکھیے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ کچھ یہی اوسط عن قریب لکھی جانے والی اردو میں انگریزی الفاظ کی ہوگی۔ راقم کے لسانی شماریاتی جائزے (۲۰۰۹ء) کے مطابق بولی جانے والی اردو میں اِس وقت ۲۰ سے ۴۵ فی صد الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں۔

دنیا کی بڑی زندہ زبانوں کی طرح اردو بھی ایک آزاد اور خود مختار زبان ہے، اور آج کی اُردو، دنیا بھر کی زبانوں کے اِس سفر میں سخنے، لفظے، لغاتے اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔

☆

بنیادی لفظ صرف مخصوص اہلِ علم کی وقتی ضرورت ہیں جب کہ اہم الفاظ سماج کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ کی صورت میں اردو میں مستعمل لفظوں کا زیرِ نظر مجموعہ ایک ایسے دور میں پیش کیا جا رہا ہے جب پوری دنیا کئی طرح کے عالم گیر انقلابات کی چکی سے پس کر گزر چکی ہے اور اب پھر تاریخِ انسانی ایک بہت بڑے تہذیبی انقلاب (Cultural Revolution) سے گزر رہی ہے۔ پہلے عالم گیر انقلابات کے نتیجے میں قومیں بکھری تھیں، یہ انقلاب قوموں، سماجوں اور ثقافتوں کو اکٹھا کرنے کا نقیب ہے: عالم گیر حکومت، عالم گیر کرنسی، عالم گیر مذہب، عالم گیر تہذیب، عالم گیر زبان...... چنانچہ اِس مجموعے میں وہ لفظ اور اُن کی چلن دار تصریفی صورتیں شامل کی گئی ہیں جن کی حیثیت بنیادی (Basic) ہے، ثقافتی (Cultural) ہے، سماجی (Social) ہے، گھریلو (Domestic) ہے، سیاسی (Political) ہے، بین الاقوامی (International) ہے، کاروباری (Commercial) ہے، معاشی (Economic) ہے، مذہبی (Religious) ہے، اخلاقی (Ethical) ہے، تعلیمی (Educational) ہے، ادبی (Literary) ہے، یا پھر استعمالی (Functional) ہے۔ اِس کے لیے قومی وعلاقائی اخباروں

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

میں چھپنے اور میڈیا پر بولے جانے والے الفاظ، سماجی و سیاسی مسائل پر ہونے والے مکالموں کے کلیدی الفاظ، تعلیمی کتابوں سے لیے گئے توضیحی الفاظ، عالمی اداروں کے ثقافتی ونگ کے پروپیگنڈہ لٹریچر کے اہم الفاظ، فلموں اور گانوں میں بولے جانے والے رسیلے الفاظ، مقبولِ عام اردو کالموں کے الفاظ، شعری و افسانوی ادب کے نمائندہ الفاظ، عوامی سیاسی و اصلاحی تقاریر کے متون، وغیرہ، سے الفاظ جمع کر کے اُنھیں الفبائی ترتیب میں پیش کیا گیا ہے۔ ڈراموں، فلموں اور خبر ناموں سے لیے گئے الفاظ کے بارے میں یہ صراحت ضروری ہے کہ یہ سرحد کے دونوں طرف سے لیے گئے ہیں۔ چناں چہ اِس مجموعۂ الفاظ میں اردو کے کثیر الاستعمال (High Frequency) لفظ، مؤثر ترین (Most Effective) لفظ، کئی شعبہ ہائے زندگی کے اہم (Important) اور مخصوص (Jargon) لفظ اور بڑی تعداد میں بنیادی (Basic) لفظ شامل ہیں۔

اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ میں اندراجات کی بنت یوں رکھی گئی ہے کہ بنیادی لفظ کے ساتھ عام طور سے اُس کی فاعلی، مفعولی اور جمع کی حالت بھی دی گئی ہے۔ اِس سے جہاں جگہ اور اندراجات کی کل تعداد کو قابو میں رکھنے میں مدد ملی ہے وہیں ایک خوب صورتی یہ بھی در آئی ہے کہ ایسے ہم جنس الفاظ ایک اندراج میں جمع ہو گئے ہیں کہ جن کی طرف عام ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا، مثلاً اللہ، مولوی۔ نیز الفاظ کے ایسے جوڑے بھی بن گئے ہیں جن کو اعلیٰ تعلیمی استعداد والے لوگ بھی یک جا یکھ کر ٹھٹکیں گے، مثلاً خام، خامی، خمیازہ یا چرخہ، چرخ چوں۔ یا مثلاً راؤلا/ رولا کا اندراج دیکھ کر ذہن فوراً ''رولا ڈالنا'' کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ چناں چہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پنجابی زبان یا کہیں کی مقامی بولی کا زائیدہ نہیں ہے بلکہ خالص اردو کا درباری یعنی عین ٹکسالی محاورہ ہے جو راؤ صاحبان کے مل کر کسی بات پر اڑ جانے اور تیز م تازا ہونے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ راؤ صاحب/ رائے بہادر ہندو عمائدین کو کمپنی سرکار سے ملنے والے سرکاری خطابات تھے جن کے مقابل ممتاز مسلمانوں کو خاں صاحب/ خاں بہادر وغیرہ خطاب ملتے تھے۔ اِسی طرح عام افعال کی عام تر تصریفی صورتوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی بہ جائے بنیادی مصدر و فعل کے تحت بطریقِ مروّج کومے اور سیمی کولن لگا کر یک جا کیا گیا ہے، یعنی آتا، آتی، آتے، آتیں، آیا، آئی، آئے، آئیں وغیرہ کو الگ الگ اندراج کی صورت میں لکھنے کی بجائے آنا کے تحت لکھ دیا گیا ہے۔ البتہ ایسے کثیر الاستعمال نیز مؤثر لفظ جو آج کی استعمالی اردو کے پہلے ایک ہزار لفظوں میں شامل ہیں، اُنھیں الگ سے باقاعدہ اندراج کی صورت میں بھی لکھا گیا ہے۔ چند الفاظ کے ساتھ نمونے کے طور پر نئی اور مشہور تراکیب بھی دی گئی ہیں تا کہ توجہ مستعد ہو کر لفظ کے مطلوب معنی کی طرف منعطف ہو سکے۔ نیز اعراب بھی اِس مجموعۂ الفاظ کے قاری کی ذہنی سطح کے مطابق صرف ضروری لفظوں پر لگائے گئے ہیں۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

القصہ لفظوں کو اِس انداز و ترتیب میں جمع کرنے سے (جسے تکنیکی طور پر Lexicon Development کہنا چاہیے، Stanley Lane-Poole کی مکمل کردہ Arabic-English Lexicon کی روشنی میں) جہاں اردو کے عام طلبہ کی ذہنی استعداد میں ترقی ہوگی اور تحقیق میں شانوں شانوں اترے ہوئے محققین کو مطلب کے لفظ اپنے اشتقاق کے ساتھ ملیں گے وہیں اُن غیر ملکی طالبانِ علم کی بہت بڑی ضرورت بھی پوری ہوگی جو اردو کو بطورِ ثانوی زبان سیکھنے کے لیے دورِ حاضر کا نمائندہ کوئی ذخیرۂ الفاظ (Wordbase) مہیا نہیں پاتے۔ اردو کے وہ اساتذہ جو غیر ملکی طلبہ کو اردو پڑھا رہے ہیں یا پڑھانے کے عملی مسائل سے آگاہ ہیں، اِس ذخیرۂ الفاظ کو اِن شاء اللہ ایک کارآمد دکانِ ہمہ سامان (One-Stop Shop) پائیں گے۔

الفاظ کو اِس ترتیب پر جمع کرنے سے شعبۂ اردو اطلاعیات کے اُن لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری ہوگی جو اردو مشینی ترجمے کی جدید ترین کارگزار تکنیک یعنی شماریاتی تکنیک (Statistical Technique) پر کام کر رہے ہیں۔ اردو مشینی ترجمے پر کام کرنے والے اکثر لوگ الفاظ کی تجنیسِ صوتی میں الجھ جاتے ہیں اور عام طور سے تجنیسِ حرفی کی تحقیق کی تربیت نہیں رکھتے۔ نیز یہ مجموعۂ الفاظ اُس فوری کاروباری و تکنیکی مانگ کو بھی پورا کر دیتا ہے جو دورِ حاضر کی اردو کے ساتھ کسی بھی زبان کی دوزبانی الیکٹرانک ڈکشنری بنانے کے لیے ضروری ہیں مثلاً اردو-انگریزی، اردو-چینی، اردو-جاپانی، اردو-روسی، اردو-کوریائی، اردو-تھائی، اردو-ملائی، وغیرہ۔

لفظوں کی تصریفی صورتوں (Inflected forms) کو شامل کرنے کی وجہ سے الفاظ کی کل تعداد چھ ہزار سے تقریباً ساڑھے تین گنا بڑھ گئی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں مصادر کے مشتقات کی تعداد بسا اوقات بیس (۲۰) سے بھی بڑھ جاتی ہے جب کہ انگریزی میں یہ عموماً پانچ (۵) کے آس پاس رہتی ہے۔ اِس پر مستزاد اردو میں تذکیر و تانیث ہے جس سے الفاظ کی کل تعداد پر اچھا بھلا حساب دان بھی چکرا جاتا ہے۔ انگریزی میں تذکیر و تانیث کا ذکر تقریباً ہے ہی نہیں۔ صرف ایک مثال دیکھیے: احمد سویا پڑا تھا/ بریرہ سوئی پڑی تھی/ بچے سوئے پڑے تھے۔ چنانچہ سویا/ سوئی/ سوئے، پڑا/ پڑی/ پڑے اور تھا/ تھی/ تھے وغیرہ سبھی تصریفی و اِمالی (inductive) صورتوں کا اندراج ضروری معلوم ہوا کیونکہ یہ مشینی دور کی اردو کے لیے نیز اردو مشینی ترجمے پر کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہر فاعلی حالت کے ساتھ اُس کی تانیثی صورت بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تیسری وجہ اردو لفظوں کی اِمالی صورتیں ہیں جو دنیا بھر کی زبانوں میں شاید ہی ملیں،

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

مثلاً: وہ کالے (کالا) جوتے (جوتا) اور نیلے (نیلا) کپڑے (کپڑا) پہنے (پہنا) ہوئے (ہوا) آئے (آیا)۔
چوتھی وجہ یہ ہے کہ اردو کے بے قاعدہ (Irregular) افعال کی تعداد انگریزی کی نسبت بہت زیادہ ہے۔
پانچویں وجہ یہ ہے کہ اردو میں الفاظ کی جمع بنانے کے قاعدے غالباً دنیا کی سبھی زبانوں سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ کئی زبانوں سے میل کھاتے ہیں اور حد یہ ہے کہ دخیل الفاظ سمیت ایک ہی لفظ کی جمع کبھی کسی اور کبھی کسی زبان کے قاعدے سے بنالی جاتی ہے، اِس لیے درست مشینی ترجمے کے لیے اِن سبھی ممکن/ چلن دار تصریفی صورتوں کو الفاظ کے مال خانے (Repository) یا ڈیٹا بیس میں ڈالا جانا ضروری ہے۔ نیز راقم کی یہ بھی تحقیق ہے کہ اردو کے مستعمل الفاظ میں بنیادی لفظ کا سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ دوطرفہ پھیلاؤ (Affixation) دنیا کی معروف بڑی زبانوں مثلاً انگریزی اور عربی کی نسبت زیادہ ہے۔

اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ میں پوشیدہ اعضائے جسمانی کے نام، رکیک اور غلیظ لفظ عموماً شامل نہیں کیے گئے کیونکہ یہ ادب وتحریر کے سوادِ اعظم (Mainstream) کا حصہ نہیں ہیں۔ البتہ اِن میں سے ایسے الفاظ جن کی قانونی وعدالتی ضرورت ہے اور وہ اخبارات اور میڈیا میں آتے رہتے ہیں اُنھیں ضرور شامل کیا گیا ہے۔ نیز اِس بات کا خاطر نشان رہنا ضروری ہے کہ ہر کثیر الاستعمال لفظ شامل کرنا بھی ممکن نہیں، مثلاً القاعدہ، اسامہ وغیرہ وہ لفظ ہیں جو گزشتہ دس بارہ سال سے دنیا کی ہر زبان کے پرنٹ/ الیکٹرانک میڈیا پر پہلے دس سے پچاس تک لفظوں میں شامل ہیں، اور اِسی طرح گزشتہ تین ماہ سے جہادسٹ اور وِکی لیکس بھی، لیکن اِن لفظوں کو شامل نہ کرنے کی وجہ ظاہر ہے۔ البتہ جس مفہوم کا ایک ہی لفظ مستعمل ہے اُسے شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اِسی طرح کمپیوٹر اور اطلاعی ٹیکنالوجی تازہ ترین شعبے ہیں جنھوں نے ہر شعبۂ علم وفن کو شدید متاثر کیا ہے۔ مدِ معاش کے لیے گھریلو عورتوں نے چرخہ کاتنا اور چکی پیسنا چھوڑ کر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور نوٹ بک سنبھال لیے ہیں اور اب سگھڑاپے کا امتحانی نشان سلائی کڑھائی نہیں رہا۔ قلم وکاغذ کا دور گزر چکا۔ بلکہ لوہا اور کاغذ تو اب سکوں روپوں کے لیے بھی ضروری نہیں رہے کہ پیپر منی یا ہارڈ کیش کی جگہ اب ای-کیش اور ای-کامرس کا دور ہے۔ اب تو جنگ تک کا مزاج بدل گیا ہے اور آج ہم سائبر جنگوں کے عہد میں جی رہے ہیں۔ آج کی جنگ میں کمپیوٹر کلا وُڈ کے ذریعے بین البر الاعظمی فاصلوں سے ڈرون حملے مانیٹر اور کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ چناں چہ کچھ اہم، معروف اور بنیادی الفاظ اِن شعبوں سے بھی لیے گئے ہیں جن کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ کچھ عرصے تک تبدیل نہیں ہوں گے اور آئندہ بننے والے زیادہ تر لفظ اِنھی سے مشتق ہوں گے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اور یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سبھی لفظ انگریزی کے ہیں۔ وجہ؟ یہ سبھی چیزیں وہیں سے بن کر آئی ہیں چناں چہ اپنے نام ساتھ لائی ہیں! دنیا بھر کی زبانوں نے اِن لفظوں کو اپنے اپنے حروفِ تہجی اور اصوات کی محدودات کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور اِن کے ''ترجمے'' کی بے ثمر کوششیں رفتہ رفتہ دم توڑ رہی ہیں۔ شان الحق حقی فرمایا کرتے تھے کہ ''اصطلاحات کے ترجموں کی کتابیں لفظوں کے قبرستان ہوتی ہیں''۔ اصطلاح کے لیے متبادل اردو اصطلاح اگر ضروری ہو تو اِسے متعلقہ شعبے کے لوگوں کو بنانا چاہیے نہ کہ دفتری اہلکاروں کو۔

اردو کے نئے، اہم اور بنیادی الفاظ میں موجود لفظوں کا انتخاب اصولاً اگر چہ ماحول میں موجود الفاظ سے کیا گیا ہے تاہم مندرجہ ذیل پانچ ماخذ کی بھی بنیادی اہمیت ہے:

۱۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی (۱۹۶۹ء) کی ''بنیادی اُردو''، لاہور، مرکزی اُردو بورڈ۔

۲۔ اردو میں زیادہ استعمال ہونے والے (High Frequency) پچاس ہزار الفاظ کی فہرست (تیار کردہ: جولائی ۲۰۰۹ء) جو راقم نے تقریباً پونے دو کروڑ الفاظ کے کارپس ڈیٹا کی چھٹائی سے بنائی ہے اور جو Current Corpus-based Urdu-English Dictionary (اشاعتِ اوّل: اگست ۲۰۰۹ء) کی بنیاد گزاری میں شامل ہے۔

۳۔ ڈاکٹر شمس الرحمٰن فاروقی کی لغاتِ روزمرہ (اشاعتِ اوّل: فروری ۲۰۰۳ء)

۴۔ Donald A Becker کی A Reverse Dictionary of Urdu (۱۹۸۰ء)؛ اور

۵۔ ڈاکٹر حسن الدین احمد کی اردو الفاظ شماری (اشاعتِ دوم: ۱۹۷۶ء) (جو اردو میں اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے، اگر چہ اب اِس کی حیثیت صرف تاریخی ہے)

الفاظ کو ملفوظی الفبائی ترتیب میں رکھا گیا ہے اور ترتیبِ تہجی میں جنابِ شان الحق حقی کی فرہنگِ تلفظ (اشاعتِ اوّل: ۱۹۹۵ء) کی پیروی کی گئی ہے۔ اِملا کے لیے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی اِملا نامہ (اشاعتِ دوم: ۱۹۹۲ء) کو جدید دور کی عملی ضروریات کے مطابق ذرا سے ''اجتہاد'' کے ساتھ رہنما بنایا گیا ہے اور اچھے بھلے الفاظ کو اِملا کی آئیڈیت کی بھینٹ چڑھانے یا اُن کا مثلہ کرنے کی بجائے عام طور سے چلن دار اِملا کو قبول کیا گیا ہے۔ مشینی دور کی اردو کے لیے یہ اجتہاد اُن لفظوں کے لیے ضروری تھا جن کے اِملا میں التباس ہو جاتا ہے۔ چناں چہ اِس مجموعۂ الفاظ کو باطمینان اردو کے معیاری اِملا کا نمائندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

الف مقصورہ

اب، ابھی

ابّ، ابا، ابو؛ (نیز عربی کنیت: ابا، ابو، ابی)

ابال؛ ابلنا، ابلا، ابلی، ابلے، ابل

ابتداء؛ ابتدائی؛ ابتدائیہ؛ ابتداءً

ابتر، ابتری

ابتلاء؛ مبتلا

ابجد

ابد؛ ابدی؛ ابدیت

ابر

ابرو

اکائی

ابلاغ؛ ابلاغی؛ ابلاغیات؛ ابلاغیاتی

ابلیس؛ ابلیسیت؛ ابلیسی

اِبن، اَبناء

ابہام؛ مبہم

ابھارنا، ابھارا، ابھاری، ابھارے، ابھار؛ ابھرنا، ابھرا، ابھری، ابھرے، ابھر

اپ ٹو ڈیٹ

اپ سیٹ

اپ گریڈ

اپ لوڈ/ ڈاؤن لوڈ؛ اپ لنک/ ڈاؤن لنک

اپاہج؛ اپاہجی

اپدیش

اپرادھ، اپرادھی

اپروچ

اپسرا

اُپلا، اُپلے

اپنا، اپنی، اپنے، اپنوں؛ اپنانا، اپنائیت؛ اپناپن

اپنشد

اپیل

اتارنا، اتارا، اتاری، اتارے، اتار؛ اترنا، اترا، اتری، اترے؛ اترتی، اترتے، اتر

اتباع؛ متبع، متبعین

اتحاد، اتحادی

اِترانا

اتفاق، اتفاقات؛ متفق؛ متفقہ؛ اتفاقی، اتفاقیہ/ اتفاقاً

اُتم

اِتنا، اِتنی، اِتنے؛ اُتنا، اُتنی، اُتنے

اٹھارٹی

اتھلا؛ اتھل پتھل

اٹارنی؛ اٹارنی جنرل، پاور آف اٹارنی

اٹامک؛ اٹامک انرجی/ پاور

اٹکانا، اٹکایا، اٹکائی، اٹکائے، اٹکاؤ؛ اٹکنا، اٹکا، اٹکی، اٹکے، اٹک

اٹکل

اٹل

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اٹنا، اٹا، اٹی، اٹے، اٹ

اٹوائی کھٹوائی/اٹوانٹی کھٹوانٹی

اٹھانا، اٹھایا، اٹھائی، اٹھائے، اٹھاؤ؛ اٹھنا، اٹھا، اٹھی،
اٹھے، اٹھ؛ اٹھان

اٹھکیلی، اٹھکیلیاں؛ اٹھلانا

اثاثہ، اثاثے، اثاثہ جات

اثبات؛ ثبت

اثر، اثرات، آثار

اجارہ؛ اجارہ داری

اجاڑنا، اجاڑا، اجاڑی، اجاڑے، اجاڑ؛ اجڑنا، اجڑا،
اجڑی، اجڑے، اجڑ

اجازت؛ مجاز

اجالا

اجتماع، اجتماعات؛ اجتماعی؛ اجتماعیت

اجتناب؛ مجتنب

اجتہاد؛ مجتہد

اجڈ

اجر؛ ماجور

اجرام

اجرت، اجرتی؛ اجرتی قاتل

اجل

اجلا، اجلی، اجلے

اجلاس؛ مجلس

اجمال، اجمالی، اجمالاً

اجماع، اجماعی

اجنبی، اجنبیت

اجوائن

اجیرن

اچار، اچاری

اچانک

اچٹنا، اچٹتا، اچٹتی، اچٹتے، اچٹ؛ اچاٹ

اچکّا

اچکن

اچنبھا

اچھا، اچھی، اچھے

اچھالنا، اچھالا، اچھالی، اچھالے، اچھال؛ اچھلنا،
اچھلا، اچھلی، اچھلے، اچھل؛ اچھل کود

اچھوت؛ اچھوتا، اچھوتی

احاطہ؛ محیط

احتجاج، احتجاجی؛ احتجاجاً

احترام؛ احترامی؛ احتراماً؛ محترم، محترمہ؛ محترمی

احتساب؛ محتسب؛ احتساب عدالت

احتمال، احتمالات؛ محتمل

احتیاط، احتیاطی؛ محتاط

احد، احدیت

احرام

احساس، احساسات؛ محسوس، محسوسات

احسان، احسانات؛ محسن

احمق؛ حماقت

احوال

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

احیاء؛احیائی؛احیائیت
اخبار،اخبارات؛خبر؛خبریت؛اخباری نمائندہ
اختتام؛اختتامی؛اختتامیہ؛اختتامی کلمات
اختصار؛مختصر
اختلاف،اختلافات،اختلافی؛مختلف
اختیار،اختیارات،اختیاری؛مختار
اخذ؛ماخوذ
اخراج؛خروج؛مخرج
اخراجات
اخروٹ
اخلاص،مخلص؛خلوص
اخلاق؛اخلاقی؛اخلاقیات؛اخلاقی سبق
اخوت
ادا؛ادائیگی/ادائگی/ادائی
ادا،ادائیں؛اداکار،اداکارہ،اداکارائیں؛اداکاری
ادارہ،ادارے،ادارہ جات؛ادارہ جاتی
اداریہ؛ادارت،ادارتی؛مدیر
اداس،اداسی
ادب،آداب؛مودب
ادب،ادبی،ادبیات؛ادیب
ادراک؛درک
ادرک
ادعا،ادعائی؛ادعائیت
ادغام؛مدغم
ادل بدل،ادلا بدلی

ادنیٰ
ادھ،آدھا،آدھی،آدھے،آدھوں
ادھار
اِدھر،اُدھر
ادھیڑنا،ادھیڑا،ادھیڑی،ادھیڑے،ادھیڑ
اڈہ/اڈا
اذن
اذان؛موذن
اذیت/ایذا؛موذی؛اذیتی
ارادت؛ارادت مند
ارادہ،ارادے
اراضی،اراضیات
ارتقاء؛ارتقائی
ارتکاب؛مرتکب
ارتکاز؛مرتکز
اردلی
اردو؛اردوویت/اردوپن؛اردووانا/تارید؛اردومیڈیم
ارزاں؛ارزانی
ارسال؛ترسیل؛مرسل،مرسلہ
ارمان
ارمغان
ارنڈ
اروی
اَڑاتا،اَڑایا،اَڑائی،اَڑائے،اَڑا؛اَڑنا،اَڑا،اَڑی،
اَڑے،اَڑ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اُڑانا، اُڑایا، اُڑائی، اُڑائے، اُڑا؛ اُڑنا، اُڑا، اُڑی، اُڑے، اُڑ؛ اُڑان

ازبر

ازاربند

ازالہ؛ ازالۂ حیثیتِ عرفی

اِس، اِسی، اِسے؛ اُس، اُسی، اُسے

اساس، اساسی، اساسیات

استاد، اساتذہ؛ استانی

استثناء؛ استثنائی؛ مستثنیٰ

استحصال؛ استحصالی

استحقاق؛ مستحق

استحکام؛ محکم

استخارہ

استدعا

استرہ

استری

استصواب؛ استصوابِ رائے

استطاعت

استعداد؛ مستعد

استعفیٰ؛ مستعفی

استعمار؛ استعماری؛ استعماریت

استعمال؛ استعمالی؛ مستعمل

استغفار؛ مغفرت

استغفراللہ

استفادہ؛ مستفید

استقبال

استقلال؛ مستقل

استوار

اَسرار

اسراف؛ مسرف

اسٹیبلشمنٹ

اسسٹنٹ

اسلام؛ اسلامی/ اسلامیت؛ اسلامیات

اسلحہ؛ مسلح

اسلوب، اسالیب؛ اسلوبی؛ اسلوبیات

اسم، اسماء؛ اسامی

اسمبلی، اسمبلیاں

اشارہ، اشارے، اشارات

اشاریہ

اشاعت، اشاعتی؛ شائع

اشتراک؛ اشتراکی؛ اشتراکیت

اشتعال؛ مشتعل

اشتہار؛ اشتہاری؛ اشتہاریت؛ مشتہر

اشک

اِشکال، اِشکالات (مشکل ہونا)

اشیاء، شے؛ اشیائے صرف

اصرار؛ مصر

اصطلاح، اصطلاحات، مصطلحات

اصل؛ اصلی؛ اصیل؛ اصلیت

اصلاح، اصلاحات؛ مصلح

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اصول؛ اصولی؛ اصولاً؛ اصولیات
اضافہ؛ اضافی
اضطراب؛ مضطرب
اطاعت؛ مطیع؛ مطاع
اطلاع، اطلاعات؛ مطلع؛ اطلاع عام
اطلاعی، اطلاعیات (انفرمیٹکس)
اطمینان؛ مطمئن؛ طمانیت؛ باطمینان
اظہار؛ اظہاریت
اعادہ؛ عادی
اعانت؛ اعانتی
اعتبار؛ اعتباری/معتبر؛ اعتباریت
اعتدال؛ متعدل
اعتراض، اعتراضات؛ معترض
اعتراف، اعترافات؛ معترف
اعتقاد، اعتقادات؛ معتقد
اعتکاف؛ معتکف
اعتماد؛ معتمد؛ معتمدی
اعزاز، اعزازات
اعزازی
اعزازیہ
اعشاریہ؛ اعشاری نظام
اعلامیہ
اعلان، اعلانات؛ اعلانِ عام
اعلیٰ؛ عالی؛ علو
اعوذ باللہ

اِغوا؛ مغوی، مغویہ؛ اغواکار
افادہ، افادات
افتاد؛ افتادگی
افتتاح؛ افتتاحیہ
افتخار؛ مفتخر؛ تفاخر
افراتفری
اِفراط؛ تفریط
افسانہ؛ افسانوی؛ افسانویت
افسر، افسران؛ افسری؛ افسریت
افسردہ؛ افسردگی
افسوس؛ تاسف؛ متاسف
افشاں
اِفشاء
اِفطار، افطاری؛ فطرانہ
افق، آفاق؛ آفاقی؛ آفاقیت
افواہ
افیون؛ افیونی
اقامت، اقامتی
اقبال؛ اقبالی؛ اقبالیات
اقتباس؛ مقتبس
اِقدام، اِقدامات
اقرار؛ اقراری
اقلیت؛ اقلیتی
اکارت
اکاؤنٹ؛ اکاؤنٹ ہولڈر، یوزر اکاؤنٹ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اکاؤنٹینٹ
اکائی، اکائیاں
اکبر، اکابر، اکابرین؛ کبیر
اکٹھا، اکٹھی، اکٹھے، اکٹھ
اکثر؛ اکثریت؛ اکثریتی
اکرام؛ مکرم
اکڑنا، اکڑا، اکڑی، اکڑے، اکڑ
اکسانا، اکسایا، اکسائے، اکسائی، اکسا، اکساوا
اکناف
اکہرا، اکہری
اُکھاڑنا، اُکھاڑا، اُکھاڑی، اُکھاڑے، اُکھاڑ؛
اُکھڑنا، اُکھڑا، اُکھڑی، اُکھڑے، اُکھڑ؛
اُکھیڑنا، اُکھیڑا، اُکھیڑی، اُکھیڑے، اُکھیڑ؛ اکھاڑ
پچھاڑ
اکھاڑہ
اکھڑ
اکیڈمی/اکادمی
اکیلا، اکیلی، اکیلے؛ اکلوتا، اکلوتی
اگاڑی
اُگانا، اُگایا، اُگائی، اُگائے، اُگا؛ اُگنا، اُگا، اُگی،
اُگے، اُگ
اگر/گر (ضرورتِ شعری سے)
اگربتی
اگلا، اگلی، اگلے، اگلوں
اُگلنا، اُگلا، اُگلی، اُگلے، اُگل؛ اُگال

الاپ؛ الاپیا
الاٹمنٹ؛ الاٹمنٹ افسر
الارم
الائچی
الاؤ
الاؤنس؛ ڈیلی الاؤنس، گزارہ الاؤنس
البم
البیلا، البیلی
التجا؛ ملتجی
التباس؛ تلبیس
التفات؛ ملتفت؛ الفت
التماس؛ ملتمس
التواء؛ ملتوی
الٹا، الٹی، الٹے، الٹوں، الٹ
الٹرا؛ الٹراساؤنڈ/ماڈرن/وائٹ
الجبرا؛ الجبرائی/الجبرک
الجھنا، الجھا، الجھی، الجھے، الجھ؛ الجھاؤ، الجھاوا
الحاق؛ ملحق، ملحقہ
الحمدللہ
الرجی
الزام؛ ملزم، ملزمہ
السر
السلام علیکم
الکوحل/الکحل
الگ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

الو
اللہ؛ مولوی، مولویان؛ للّٰہیت
اللہ اکبر؛ اللہ غنی
الٰہ، الٰہی، الٰہیات
الماری
الیکٹرک؛ الیکٹرانک، الیکٹرانکس؛ الیکٹرانک میڈیا
الیکشن؛ الیکشن کمیشن
الھڑ؛ الھڑپن
امام، ائمہ
امانت؛ مومن، مومنہ
امّاں/امی؛ (تیز عربی کنیت: اُم)
امپورٹ؛ امپورٹ ٹیکس، امپورٹر
امت، امم، امتیں؛ امتی
امتحان، امتحانات؛ امتحانی؛ ممتحن
امتیاز؛ امتیازی؛ امتیازات
امداد؛ امدادی؛ امدادی کارروائی/کیمپ
امر، اوامر
امرود
امریکہ؛ امریکی
امکان، امکانات؛ امکانی
املاء؛ املائی؛ املائیت
املتاس
املی
امن؛ امان؛ مامون؛ دارالامن، امن و امان، امن فوج

امنگ
امیج
امید
امیر، امراء؛ امیری؛ امارت
امیگریشن
اِن، اِنہی، اِنھیں، اِنھوں؛ اُن، اُنہی، اُنھیں، اُنھوں
اِن پُٹ/آؤٹ پُٹ
اِن باکس/آؤٹ باکس
اناج
انار
انارکی
اناڑی
اناؤنس؛ اناؤنسر، اناؤنسمنٹ
انبار
انت
انتخاب، انتخابات؛ منتخب؛ انتخابی؛ انتخابیت
انترہ
انتظار؛ منتظر
انتظام، انتظامات؛ انتظامی؛ انتظامیہ؛ منتظم، منتظمین
انتقال؛ منتقل
انتہا، انتہائی؛ منتہی؛ انتہاپسند، انتہاپسندی
انٹرپرائز
انٹرپول/چینج/کام/نیشنل
انٹرنیٹ؛ انٹرنیٹ پروٹوکول
انٹینا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

انجام
انجمن؛ انجمنِ حمایتِ اسلام، انجمن سازی
انجن
انجیل
انجینئر؛ انجینئرنگ
اِنچ؛ اِنچی ٹیپ
انچارج
انحراف؛ منحرف
انحطاط
انداز
اندازہ؛ اندازاً
اندر؛ اندرون؛ اندرونی
اِندر؛ اِندری
اندوہ
اندیشہ
اندھا، اندھی، اندھے
اندھیرا، اندھیری، اندھیرے، اندھیر (نیز ضرورتِ شعری سے: اندھیارا)
انڈر؛ انڈرپاس/ گراؤنڈ/ ورلڈ
انڈسٹری؛ انڈسٹریل
انڈہ، انڈے
انڈیلنا، انڈیلا، انڈیلی، انڈیلے، انڈیل
انرجی؛ انرجی سیور/ سیکٹر
انزال؛ منزل
انسان؛ انسانی؛ انسانیت؛ انسانی ڈھال

انسائیکلوپیڈیا
انسپکٹر
انسپکشن
انسٹالمنٹ
انسٹرکٹر
انسداد؛ مسدود؛ انسدادِ دہشت گردی
انشاء؛ انشائیہ؛ منشی، انشاء پرداز؛ انشائی
ان شاء اللہ
انشورنس؛ لائف انشورنس، گروپ انشورنس
انصاف؛ منصف، منصفہ؛ منصفانہ
انضباط؛ انضباطی
انعام؛ انعامی؛ انعامات
انعکاس؛ منعکس
انفارمیشن/ انفرمیشن؛ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی
انفرادی؛ منفرد
انفراسٹرکچر
انفس (و آفاق)
انفعال، انفعالی؛ منفعل؛ انفعالیت
انقباض؛ منقبض
انقلاب، انقلابات؛ انقلابی؛ منقلب؛ انقلابیت
انکار؛ انکاری؛ منکر
انکسار؛ منکسر؛ منکسر المزاج
انکشاف، انکشافات؛ منکشف
انکل؛ انکل سام

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

انکم؛انکم ٹیکس

انکوائری

انگ: انگ انگ؛ سہل انگار

انگارہ،انگارے

انگریز،انگریزنی؛انگریزی؛انگریزیت؛انگلستان

انگڑائی

انگشت؛انگشتانہ

انگلش؛انگلش میڈیم؛انگلشیہ

انگل،انگلی،انگلیاں

انگوٹھا،انگوٹھے؛انگوٹھا چھاپ

انگوٹھی،انگوٹھیاں

انگور؛انگوری

انگیا

انگیٹھی

انگیخت

انمول

اناس

انوکھا،انوکھی،انوکھے

انہدام؛انہدامی؛منہدم

انہماک؛منہمک

اوباش،اوباشی

اوپر،اوپری

اوپن؛اوپن ایئر/ لیٹر/ مارکیٹ/ میرٹ/ چیک

اوتار

اوٹ (ونج)

اوٹ پٹانگ

اوج

اوجھ/اوجھڑی

اوجھل

اوچھا،اوچھی،اوچھے

اودا،اودی،اودے

اودھم

اور

اوڑھنا، اوڑھا، اوڑھی، اوڑھے، اوڑھ؛ اوڑھنا بچھونا،اوڑھنی

اوزار

اوزون

اوس

اوسان

اوسط،اواسط

اوقات؛وقت

اوکھا،اوکھی

اوکھلی

اوّل؛اوّلاً؛اوّلیت،اوّلیات

اولاد؛مولود

اولتی

اولمپک

اولہ/اولا

اوم

اون؛اونی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

اونٹ، اونٹنی

اونچا، اونچی، اونچائی؛ اونچان

اوندھا، اوندھی، اوندھے

اونگھنا، اونگھا، اونگھی، اونگھے، اونگھ

اونا پونا/ اونے پونے

اوور؛ اوور ٹائم/ ٹیک/ کوٹ/ ہالنگ/ ہیڈ، اوورسیز پاکستانی کمیونٹی

اوون؛ مائیکروویو اوون

اوہ، اوہو

اہتمام؛ مہتمم

اہرام

اہل؛ اہلیت؛ اہلیہ؛ اہلِ بیت

اے ٹی ایم؛ اے ٹی ایم کارڈ

اے ون

ایپرن

ایپلیکیشن؛ ایپلیکشن پروگرام

ایتھلیٹ؛ ایتھلیٹکس

ایٹم؛ ایٹمی؛ ایٹم بم؛ ایٹمی تنصیبات؛ ایٹمی اثاثے

ایثار

ایجاب؛ واجب

ایجاد، ایجادات؛ موجد

ایجنٹ

ایجنڈا

ایجنسی؛ ایجنسیاں

ایچ ٹی ٹی پی (انگ http:/.)

ایڈ؛ فارن ایڈ

ایڈریس

ایڈز

ایڈوانس

ایڈوائزر

ایڈووکیٹ

ایڈہاک؛ ایڈہاک ازم/ ایڈہاکی/ ایڈہاکیا

ایڈیٹر؛ ایڈیٹوریل

ایراغیرا

ایریا

ایڑی، ایڑیاں

ایزد، ایزدی

ایزی؛ ایزی لوڈ/ کیش/ لائف

ایس ایم ایس/ ٹیکسٹ/ سندیسہ

ایسا، ایسی، ایسے، ایسوں

ایش ٹرے

ایشیا؛ ایشیائی؛ ایشیائیت؛ فخرِ ایشیاء

ایشو؛ نان ایشو؛ ری ایشو؛ ایشو نمبر

ایصال؛ موصول، موصولہ

ایضًا

ایف اے/ ایف ایس سی

ایف ایم (FM)

ایک، ایکا؛ ایکیت

ایکٹ؛ سول ایکٹ، میرج ایکٹ، رسالت ایکٹ

ایکٹر، ایکٹریس؛ ایکٹنگ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

ایکٹر
ایکسائز؛ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن
ایکسپریس؛ ایکسپریس وے/سروس
ایکسپو؛ ایکسپو سنٹر
ایکسپورٹ؛ ایکسپورٹ ٹیکس، ایکسپورٹر
ایکسچینج
ایکسرے
ایکشن؛ ایکشن پلان/فلم
ایلچی
ایلومینیم
ایم اے/ایم ایس سی
ایم پی ۳/ایم پی ۴
ایماء؛ ایمائیت
ایمان؛ ایماندار؛ ایمانداری؛ ایمانی؛ ایمانیات
ایمرجنسی
ایمن
ای میل (E-Mail)
این او سی (NOC)
این جی او (NGO)
اینٹ، اینٹیں
اینٹی؛ اینٹی ایئر کرافٹ گن، اینٹی نارکوٹکس، اینٹی وائرس
اینٹھنا، اینٹھا، اینٹھی، اینٹھے، اینٹھ
ایندھن
اینکر؛ اینکر پرسن

ایوارڈ
ایوان؛ ایوانِ تجارت وصنعت
ایہام؛ موہوم

الف ممدودہ

آب، آبی؛ آبیاری؛ آبیانہ؛ آبی جارحیت
آباء؛ آبائی
آباد؛ آبادی؛ آبادیات؛ آبادکاری
آبرو
آبنوس؛ آبنوسی
آپ؛ آپا، آپی، آپے (اپنا آپ)
آپا
آپریٹر
آپریشن؛ آپریشن کلین اَپ
آپس؛ آپسی
آپشن؛ آپشنل
آتش؛ آتشیں؛ آتشبازی، آتشزدگی، آتشیں اسلحہ
آتما
آٹا
آٹوگراف
آٹومیٹک
آج؛ آج کل
آجر؛ اجیر
آچاریہ/اچاریہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

آختہ
آخر؛ آخری؛ آخرت؛ آخرش؛ آخرِ کار
آدِت
آدرش؛ آدرشی؛ آدرش وادی
آدم؛ آدمی؛ آدمیت
آدیش/آدیس
آڈٹ؛ آڈٹ رپورٹ
آڈیو
آذر
آر
آراستہ؛ آراستگی
آرام
آرائش؛ آرائشی
آرتھوپیڈک
آرتھوڈاکس
آرٹ؛ آرٹسٹ
آرٹلری
آرڈیننس (قانون)
آرزو
آرسی؛ آرسی مصحف
آرکائیو
آرکسٹرا
آرمی؛ آرمی ایکشن؛ آرمی چیف
آرہ؛ آری
آریہ/آریا؛ آریائی/آرین

آڑ
آڑا، آڑی، آڑے
آڑو
آڑھت؛ آڑھتی، آڑھتیا
آزاد؛ آزادی؛ آزادانہ؛ آزادہ، آزادگی
آزار؛ آزار پسندی
آزر؛ آزری
آزردہ؛ آزردگی
آزمانا، آزمایا، آزمائی، آزمائے، آزما؛ آزمائش، آزمائشی
آزمودہ؛ آزمودگی؛ آزمودہ کار
آس؛ آس مراد
آسان، آسانی، آسانیاں؛ آسان پسند
آسائش، آسائشی
آستان؛ آستانہ، آستانے؛ آستان بوسی
آستین، آستینیں
آسرا، آسرے
آسمان؛ آسمانی
آسن
آسودہ؛ آسودگی؛ آسودگان
آسیب، آسیبی
آشنا
آشام؛ آشامی
آشتی؛ آشتی پسند
آشرم

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

آشفتہ، آشفتگان؛ آشفتگی
آشکار/آشکارا
آشنا؛ آشنائی؛ آشنائیاں
آشوب؛ آشوبِ آگہی/چشم
آشیاں؛ آشیانہ؛ آشیاں بندی
آشیر باد
آغاز
آغوش
آفت، آفات
آفتاب؛ آفتابی
آفتابہ
آفریں
آفرینش
آفس؛ آفیشل
آقا؛ آقائی
آک/اَک (پودا)
آکاس/آکاش
آکسیجن
آگ
آگا، آگے
آگاہ، آگاہی، آگہی
آل؛ آل اولاد
آلائش، آلائشیں
آلکس/آلکسی
آلو

آلو بخارا
آلوچہ، آلوچے
آلودہ؛ آلودگی؛ فضائی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی
آلہ، آلات
آم
آماجگاہ
آمادہ؛ آمادگی
آمد؛ آمدنی، آمد و رفت
آمر؛ آمرانہ؛ آمریت
آملہ
آملیٹ
آمنا سامنا
آموختہ؛ آموزش
آمیز، آمیزش؛ آمیزہ
آمین
آن؛ آن بان
آن/آف
آن لائن/آف لائن
آنا فانا
آں
آنا، آؤ، آ، آجا، آجاؤ، آجائیں، آیئے، آگیا، آگئے،
آگئیں؛ آتا، آتی، آتے، آتیں؛ آیا، آئی،
آئے، آئیں
آنت؛ انتڑی
آنچ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

آنچل

آندھی، آندھیاں

آنسو، آنسوؤں

آنسہ

آنک؛ آنکنا

آنکھ، آنکھیں

آنگن

آنند؛ آنندی

آنہ، آنے

آوا

آواگون

آوارہ، آوارگان؛ آوارگی، آوارہ گردی

آواز

آوازہ

آورد

آویزاں؛ آویزہ

آویزش

آہ

آہا

آہٹ

آہستہ؛ آہستگی

آہن؛ آہنی

آہو

آؤ بھگت

آئس کریم

آئسہ

آئکان/تصویرچہ

آئل؛ آئل ٹینکر

آئندہ، آئندگان

آئی پوڈ(IPod)

آئیڈیا؛ آئیڈیالوجی

آئیڈیل

آئین؛ آئینی؛ آئینیت؛ آئین شکنی

آئینہ/آئنہ

آیت، آیات؛ آیاتِ قرآنی/ بینات

ب

باب، ابواب

بابا؛ بابے

بابل

باپ، باپو

بات، باتیں؛ بتنگڑ

باٹ، بٹے، بٹیا، بٹہ

باج؛ باج گزار

باجرہ/باجرا

باجہ، باجے

باجی، باجیاں

باچھ، باچھیں

باد؛ بادِنسیم/بہار

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بادام؛ بادامی
بادشاہ؛ بادشاہی/ بادشاہت؛ بادشاہانہ
بادل؛ بدلی، بدلیاں
بادہ؛ بادہ نوش
بادی
بادیہ
باڈی؛ باڈی گارڈ/لینگویج
بار (وزن)
بار (گنتی: بارہا، باربار)
بار (رسائی)؛ باریاب؛ باریابی
باراں؛ بارانی
باربی کیو (کھانا)
باردانہ
بارش
بارود، بارودی
باری، باریاں؛ باری بندی
باریک، باریکی، باریکیاں
باڑھ
باز (رکنا)
باز (پرندہ)
بازار؛ بازاری؛ بازاری پن/ بازاریت
بازو، بازوؤں
بازی، بازیاں
باس؛ باسی؛ بساند
باس (افسر)

باسمتی
باشندہ، باشندگان
باطل؛ باطل پرست
باطن؛ باطنی؛ باطنیت بطن، بطون
باعث
باغ، باغات؛ باغیچہ/ باغچہ؛ باغبان، باغبانی
باغی؛ بغاوت؛ باغیانہ
باقی، بقیہ، بقایا، باقیات؛ بقاء
باک
باکسنگ
باگ، باگیں
بال (جسم کا رواں)
بال؛ بالک/ بالکا؛ بال بچے
بالا، بالائی؛ بالائی آمدن، بالادستی
بالٹی؛ بالٹی گوشت
بالغ؛ بلوغ، بلوغت؛ بالغ رائے دہی
بالکل؛ بالکلیہ
بالکونی
بالم/ بلم/ بلما
بالن
بالوشاہی
بالی، بالیاں
بام (لیپنے کی دوا؛ چھت)
بان/ دان
بانٹنا، بانٹا، بانٹی، بانٹے، بانٹ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

باندی، باندیاں

باندھنا، باندھا، باندھی، باندھے، باندھ؛ بندھن

بانڈ؛ پرائز بانڈ

بانس؛ بانسری، بنسریا، بنسی (ضرورتِ شعری سے)

بانکا، بانکی، بانکے؛ بانکپن

بانگ؛ بانگِ جرس، بانگِ درا

بانگی

بانو

بانی

باوا

باورچی، باورچن؛ باورچی خانہ

باؤلا، باؤلی

باہ

باہر

باہم/ بہم، باہمی

بائن؛ بائنہ

بائی پاس

بائیکاٹ

بائیں؛ بایاں

بائیوڈیٹا؛ بائیوگرافی

ببول

بپتا

بپھرنا

بت

بتانا، بتایا، بتائی، بتائے، بتا

بتی، بتیاں

بتیسی، بتیسیاں

بٹ؛ میگابٹ، گیگابٹ، ٹیرابٹ

بٹانا، بٹایا، بٹائی، بٹائے، بٹا؛ بٹا کھاتہ؛ بٹنا، بٹا، بٹی، بٹے، بٹ

بٹن

بٹورنا، بٹورا، بٹوری، بٹورے، بٹور

بٹوہ/ بٹوا، بٹوے

بٹھانا، بٹھایا، بٹھائی، بٹھائے، بٹھا؛ بیٹھنا، بیٹھا، بیٹھی، بیٹھے، بیٹھ؛ بیٹھک، اٹھک بیٹھک

بٹیر، بٹیرہ/ بٹیرا

بجا؛ بجائے

بجانا، بجایا، بجائی، بجائے، بجا؛ بجنا، بجا، بجی، بجے، بج

بجٹ؛ بجٹ تقریر/ اجلاس

بجری

بجلی، بجلیاں

بجھانا، بجھایا، بجھائی، بجھائے، بجھا؛ بجھنا، بجھا، بجھی، بجھے، بجھ

بچانا، بچایا، بچائی، بچائے، بچاؤ، بچا؛ بچنا، بچا، بچی، بچے، بچو، بچ؛ بچاؤ، ہٹو بچو

بچپن، بچپنا؛ بچگانہ/ بچکانہ

بچن

بچہ، بچی، بچے، بچگان؛ بچو

بچھانا، بچھایا، بچھائی، بچھائے، بچھاؤ، بچھا؛ بچھنا،

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بچھا، بچھی، بچھے، بچھ؛ بچھونا، بچھونی

بچھڑا، بچھڑی/ بچھیا

بچھڑنا، بچھڑا، بچھڑی، بچھڑے، بچھڑ

بچھو

بحال، بحالی؛ بحالیات

بحث؛ مباحثہ؛ باحث؛ بحثنا، بحثا بحثی

بحر، بحری؛ بحریہ

بحران، بحرانی؛ بحرانیات (انگ Crisology)

بخار؛ بادی بخار، میعادی بخار

بخارات؛ آبی بخارات

بخت؛ بخت آور/ بختاور

بخرہ، بخرے؛ حصے بخرے

بخشنا، بخشا، بخشی، بخشے، بخش؛ بخشنہار؛ بخشش؛ بخشیش

بخیہ؛ بخیہ گری

بد؛ بدی؛ بدکاری، بداعتمادی، بدظنی

بدررو

بدعت، بدعات؛ بدعتی

بدکنا، بدکا، بدکی، بدکے، بدک

بدلنا، بدلا، بدلی، بدلے، بدل

بدلہ

بدن؛ بدنی

بدیہہ؛ بدیہہ گوئی؛ بدیہی؛ بدیہیات

بڈھا، بڈھی، بڈھے

بذلہ؛ بذلہ سنج

بر (دلھا)

بر (زمین)؛ بری فوج

برا، بری، برے، بروں

برابر؛ برابری، برابر سرابر

برات؛ براتی

براجنا

برادر، برادران؛ برادری؛ برادرانہ؛ عالمی برادری، برادرانِ اسلام

براڈ بینڈ

براڈ کاسٹ؛ براڈ کاسٹنگ؛ براڈ کاسٹر

برانچ؛ برانچ لائن/ آفس/ روڈ/ نہر

برانڈ

برانڈی

براؤزنگ (انگ Browsing)

براہ/ براستہ؛ براہِ راست، براستہ بھٹنڈہ

برائے؛ برائے گفتگو، برائے بیت

بربر؛ بربریت/ بربری

بربط

برپا/ بپا

بُرتا

برتنا، برتا، برتی، برتے، برت

برتن

بُرج

برجستہ؛ برجستگی؛ برجستہ گوئی

برچھا، برچھی

برخوردار، برخورداری؛ برخوردارانہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

برداشت

بردہ؛ بردہ فروش

برزخ

برس (زمانہ)

برسات؛ برساتی؛ برسنا، برسا، برسی، برسے، برس

برسٹ

برش

برف؛ برفیلا

برق

برقع، برقعے، برقعوں؛ ٹوپی والا برقع

برکت، برکات؛ مبارک؛ بابرکت

برکھا

برگد/ بڑ/ بوڑھ/ بوہڑ

برگر

برما

بروشر

برہان، براہین؛ برہانی

برہم، برہمی

برہمچریہ

برہمن/ بہمن/ براہمن؛ برہمنیت

برہنہ؛ برہنگی

بریانی

بریفنگ؛ ڈی بریفنگ

بریکٹ

بریلی؛ بریلوی؛ بریلویت

بڑا، بڑی، بڑے، بڑوں

بڑبڑانا، بڑبڑایا، بڑبڑائی، بڑبڑائے، بڑبڑ

بڑھاپا

بڑھانا، بڑھایا، بڑھائی، بڑھائے، بڑھا؛ بڑھنا،
بڑھا، بڑھی، بڑھے، بڑھ؛ بڑھیا

بڑھک

بزرگ؛ بزرگی؛ بزرگوار؛ بزرگانہ

بزم

بزنس؛ بزنس مین/ ڈیل/ پوائنٹ

بس (حد)

بس (سواری)؛ بس سٹاپ/ سٹینڈ/ اڈہ

بِس

بسا اوقات

بساط

بسانا، بسایا، بسائی، بسائے، بسا؛ بسنا، بسا، بسی، بسے،
بس، بستی

بستان/ بوستان؛ بستانی

بستر/ بسترہ؛ بستر بند

بستہ

بسم اللہ؛ ست بسم اللہ، بسم اللہ جی آیاں نوں

بسمل

بُسنا، بُسا، بُسی، بُسے، بُس

بسنت؛ بسنتی

بسیار؛ بسیار گوئی، تلاشِ بسیار

بسیرا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بشارت
بشر؛ بشری؛ بشریت
بصارت؛ بصیر
بصیرت، بصائر
بطخ
بعثت؛ مبعوث
بعد
بُعد، ابعاد؛ بعید
بعدالت/ بہ عدالت
بعض، بعضے، بعضی
بغض، مبغوض
بغل، بغلی؛ بغلگیر
بفر؛ بفرزون
بکار؛ بکارِ سرکار
بکارت؛ باکرہ
بکتر بند گاڑی
بکرا، بکری؛ بوبکرا
بکنا؛ بکواس
بِکنا، بِکا، بِکی، بِکے، بِک؛ بیچنا، بیچا، بیچی، بیچے، بیچ
بکھیڑا
بگاڑنا، بگاڑا، بگاڑی، بگاڑے، بگاڑ؛ بگڑنا، بگڑا، بگڑی، بگڑے، بگڑ
بگٹٹ
بگل
بگلا؛ بگلا بھگت

بگھارنا، بگھارا، بگھاری، بگھارے، بگھار
بل (قوت؛ مروڑ)
بل (انگ: Bill)
بلا، بلائیں، بلایا (فت ب)
بلا؛ بلاتکلف/ تردد/ توقف (کس ب)
بلاگ (انگ: Blog)
بلانا، بلایا، بلائی، بلائے، بلا
بلب
بلبل
بلبلہ، بلبلے
بلٹ؛ بلٹ پروف
بلد؛ بلدیہ؛ بلدیاتی؛ بلدیۂ عظمیٰ
بلڈ؛ بلڈ پریشر/ بنک/ ڈونر/ کینسر
بلڈنگ
بلڈوزر
بلغم، بلغمی
بلند؛ بلندی
بلکہ
بلوچ؛ بلوچی
بلوہ
بلی، بلیاں؛ بلاّ
بلیچ؛ بلیچنگ کریم/ پاؤڈر؛ سکن بلیچ
بلیغ؛ بلاغت
بلیک؛ بلیک منی/ باکس/ بورڈ
بلیو؛ بلیوٹوتھ (اطلاعیات)/ پرنٹ/ بک

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بم؛ بم ڈسپوزل؛ بمبار؛ بمباری

بمپر

بَن (جنگل)

بِن، بِنا (بغیر)

بنانا، بنایا، بنائی، بنائے، بنا؛ بننا، بنا، بنی، بنے، بن

بنام

بناوٹ؛ بناوٹی

بنجر؛ بنجر جدید، بنجر قدیم

بند

بندوبست

بندر، بندریا؛ بندر بانٹ

بندرگاہ

بندش

بندوق؛ بندوقچی، بندوق بردار

بندہ، بندی، بندے؛ بندہ نواز

بنفشہ؛ بنفشئی/ بنفشی

بنک/ بینک؛ بینکار، بینکاری؛ بنک بیلنس

بنگلہ، بنگلے، بنگلہ جات

بُننا، بُنا، بُنی، بُنے، بُنائی، بُن

بو (ومع)

بوتہ (ومع؛ بل بوتہ)

بوتل

بوتیک

بوٹ؛ سوٹ بوٹ

بوٹا؛ بوٹی (نیز امتحان میں ناجائز ذرائع کا استعمال)

بوجھ؛ بوجھل

بوجھنا، بوجھا، بوجھی، بوجھے، بوجھ

بوچھاڑ/ بوچھار

بورا، بوری، بوریاں؛ بوری بند لاش

بورڈ (عمارت؛ انتظامی ہیئت)؛ بورڈ آف گورنرز، بورڈنگ ہاؤس

بوریت

بوریہ/ بوریا

بوڑھا، بوڑھی، بڑھیا

بوسہ، بوسے

بوکھلانا، بوکھلایا، بوکھلائی، بوکھلائے، بوکھلا؛ بوکھلاہٹ

بول؛ بولنا، بولا، بولی، بولے، بولیں؛ بولی، بولیاں

بونا، بونی

بونا، بویا، بوئی، بوئے، بو؛ بوائی

بوند

بوندی، بوندیاں (مٹھائی)

بونس

بونگا، بونگی

بونی

بہا (قیمت)

بہادر؛ بہادری؛ بہادرانہ

بہار؛ بہاریں؛ بہاراں

بہارنا؛ بہاری

بہانا، بہایا، بہائی، بہائے، بہا؛ بہنا، بہا، بہی، بہے، بہہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بہانہ؛ بہانہ بازی
بہبود؛ بہبودی؛ بہبودیت
بہت، بہتات؛ بہتیرا، بہتیری، بہتیرے
بہتان
بہتر، بہتری، بہترین
بہجت؛ بہجت افزاء
بہر؛ بہر حال/طور/صورت/ قیمت
بہرا، بہری، بہرے
بہرہ؛ بہرہ مند/ ور
بہشت؛ بہشتی
بہکانا، بہکایا، بہکائی، بہکائے، بہکا؛ بہکنا، بہکا، بہکی،
بہکے، بہک؛ بہکاوا
بہلانا، بہلایا، بہلائی، بہلائے، بہلا؛ بہلنا، بہلا،
بہلی، بہلے، بہل؛ بہلانا پھسلانا
بہن، بہناپا
بہو، بہوئیں، بہوؤں
بہی؛ بہی کھاتہ، روکڑ بہی
بی/ بی بی/ بی بی جی/ بی اماں
بیابان؛ بیابانی
بیاج
بیاض
بیان، بیانات؛ بیانی؛ بیان بازی، حلفیہ بیان
بیاہنا، بیاہا، بیاہی، بیاہے، بیاہ؛ بیاہتا؛ بیاہی تیاہی
بیت؛ بیت بازی/ بحثی
بیتنا، بیتا، بیتی، بیتے، بیت؛ بِتانا، بِتایا، بِتائی، بِتائے،

بِتا
بیٹ
بیٹا، بیٹی؛ بیٹے، بیٹیاں
بیٹری
بیچنا، بیچا، بیچی، بیچے، بیچ
بیچ (ی مع)
بیخ
بید
بیڈ؛ بیڈ روم/ ٹی
بیر (ایک پھل)
بیر (ے لین؛ عداوت)
بیڑا، بیڑی (ی مع؛ ٹوکری، پان کی گلوری)
بیڑہ (ے مج؛ جہاز)
بیڑہ/ بیڑا، بیڑی (ی مع؛ دیسی سگریٹ)
بیزار؛ بیزاری
بیس کیمپ
بیساکھ
بیساکھی
بیسٹ سیلر (Best Seller)
بیسن؛ بیسنی
بیسوا
بیش؛ بیشی
بیضہ؛ بیضوی/ بیضاوی
بیع
بیعت

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بیگار؛ بیگاری

بیگانہ؛ بیگانگی؛ بیگانگت/ بیگانگیت

بیگم؛ بیگمات؛ بیگماتی

بیل (پودا)

بیل (جانور)

بیل (انگ: Bell)

بیلچہ

بیلف

بیلنا، بیلا، بیلی، بیلے، بیل؛ بیلن/ بیلنہ

بیلنس؛ بیلنس شیٹ

بیمار، بیماری؛ بیمارستان

بیمہ؛ بیمہ کاری

بین (ی مع، باجہ)

بین (بے لین)، بین الاقوامی، بین الکلیاتی، بین
الصوبائی، بین السطور

بینڈ؛ بینڈ باجہ

بینڈ وِڈتھ

بینڈا، بینڈی

بینگن؛ بینگنی/ بینجنی

بیوپار؛ بیوپاری

بیوٹی؛ بیوٹی پارلر/ کوئین/ کریم/ ٹپس

بیورو؛ بیوروکریٹ/ کریسی

بیوی، بیویاں

بھ

بھابی، بھابیاں؛ بھاوج

بھاپ

بھاٹ؛ بھٹئی

بھادوں

بھار؛ بھاری

بھارت، بھارتی؛ بھارتیہ

بھاڑ؛ بھاڑا؛ بھاڑے کا ٹٹو

بھاشا

بھاگ، بھاگی

بھاگنا، بھاگا، بھاگی، بھاگے، بھاگ؛ بھگانا، بھگایا،
بھگائی، بھگائے، بھگا؛ بھگوڑا، بھگوڑی، بھاگ
دوڑ

بھان (ریزگاری)

بھانپنا، بھانپا، بھانپی، بھانپے، بھانپ

بھانڈ؛ بھَنڈی

بھانڈا، بھانڈے؛ بھانڈا پھوڑنا

بھاؤ؛ بھاؤ بندی، بھاؤ تاؤ

بھائی؛ بھائی چارہ

بھبھک/ بھبک، بھبکا

بھتہ؛ بھتہ خوری

بھٹکنا، بھٹکا، بھٹکی، بھٹکے، بھٹک؛ بھٹکانا، بھٹکایا،
بھٹکائی، بھٹکائے، بھٹکا

بھٹہ؛ بھٹہ خشت

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بھٹی

بھٹیارا، بھٹیاری، بھٹیارن؛ بھٹیار خانہ

بھجن

بھد؛ بھدا، بھدی

بھر بھرا، بھر بھری، بھر بھرے

بھرتہ

بھرتی

بھرکس

بھرم

بھرنا، بھرا، بھری، بھرے، بھر؛ بھراؤ؛ بھرائی

بھروسہ

بھڑ

بھڑاس

بھڑبونجا

بھڑکانا، بھڑکایا، بھڑکائی، بھڑکائے، بھڑکا؛ بھڑکنا، بھڑکا، بھڑکی، بھڑکے، بھڑک

بھڑکیلا، بھڑکیلی، بھڑکیلے؛ بھڑکدار

بھڑنا، بھڑا، بھڑی، بھڑے، بھڑ (کس بھڑ)

بھڑوا، بھڑوے؛ بھڑوی

بھس، بھوسہ، بھوسی

بھسم

بھگتانا، بھگتایا، بھگتائی، بھگتائے، بھگتا؛ بھگتنا، بھگتا، بھگتی، بھگتے، بھگت؛ بھگتان

بھگوت گیتا/بھگودگیتا

بھگونا، بھگویا، بھگوئی، بھگوئے، بھگو؛ بھیگنا، بھیگا،

بھیگی، بھیگے، بھیگ

بھل؛ بھل صفائی

بھلا، بھلی، بھلے؛ بھلائی؛ بھلمنساہٹ

بھنبھوڑنا

بھنڈی، بھنڈیاں

بھنگ

بھنگا

بھنگڑا

بھنگی

بھوبل

بھوت، بھتنی

بھوجن

بھورا، بھوری، بھورے

بھوکا، بھوکی، بھوکے؛ بھوک

بھوگ

بھولا، بھولی؛ بھولپن

بھولنا، بھولا، بھولی، بھولے، بھول؛ بھلانا، بھلایا، بھلائی، بھلائے، بھلا

بھُونڈ؛ بھونڈی باز

بھونڈا، بھونڈی، بھونڈے

بھونڈو

بھونکنا، بھونکا، بھونکی، بھونکے، بھونک (نیز بمعنی گھسیڑ دینا)

بھونا، بھونا، بھونی، بھونے، بھون

بھی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

بھیجہ/ بھیجا

بھیجنا، بھیجا، بھیجی، بھیجے، بھیج

بھید؛ بھیدی

بھیروں/ بھیرویں

بھیڑ (ی مع، مجمع)

بھیڑ (ے مج، جانور)/ بھیڑو

بھیڑیا

بھیس

بھیک؛ بھکاری، بھکارن

بھینٹ

بھینچنا، بھینچا، بھینچی، بھینچے، بھینچ

بھینس، بھینسا

بھینگا، بھینگی

پ

پابند؛ پابندی؛ پابندیاں؛ پابندِ صوم وصلوٰۃ

پاپ؛ پاپی

پاپ اَپ (Pop-up)

پاپ کارن

پاپ میوزک

پاپوش؛ پاپوش کاری

پاتال

پاتھنا

پاٹ؛ پاٹنا

پاٹ (Pot)

پاٹھ؛ پاٹھ شالا

پاجی؛ پاجی پن

پاخانہ

پاداش

پار

پارا (سپارہ)

پارٹ؛ پارٹ ٹائم؛ پارٹنرشپ

پارٹی؛ پارٹی باز/ پوزیشن

پارس

پارسا؛ پارسائی

پارسل

پارک

پارلر

پارلیمان/ پارلیمنٹ؛ پارلیمانی/ پالیمنٹری

پارہ (ٹکڑا؛ سیماب)

پاس (قریب)

پاس (اجازت نامہ)؛ پاسپورٹ

پاس ورڈ

پاسبان، پاسبانی

پاسنگ

پاسنگ آؤٹ

پاش، پاش پاش؛ پاشی (لاحقہ)

پاک؛ پاکی؛ پاکیزہ؛ پاکیزگی؛ پاکباز

پاکستان؛ پاکستانی؛ پاکستانیت

پاکھنڈ؛ پاکھنڈی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پاگل؛ پاگل پن
پالا (سردی)
پالا (واسطہ)
پالان
پالش
پالک
پالکی
پالنا، پالا، پالی، پالے، پال؛ پلنا، پلا، پلی، پلے، پل؛ پالتو
پامال/ پائمال؛ پامالی
پامردی
پان؛ پنواڑی، پنواڑن
پانا، پایا، پائی، پائے، پاؤ، پائیں، پا
پانسہ/ پاسہ
پانی؛ پنگھٹ
پاور؛ پاور ہاؤس/ میٹر/ شیئرنگ، بیلنس آف پاور، ہارس پاور
پائنتی
پائندہ؛ پائندہ باد
پاؤڈر؛ پاؤڈری
پاؤں؛ پائیدان
پائپ
پائلٹ
پایان؛ پایانِ کار
پایہ، پائے

پبلک
پبلشر؛ پبلشنگ
پپڑی
پپوٹا
پپیہا
پتا
پتر؛ پترکار (نامہ نگار)
پتلا، پتلی، پتلے
پتلون؛ پتلون پوش
پُتلہ، پتلی؛ پتلی تماشہ
پتنگ
پتنگا
پتہ (جائے سکونت)
پتہ، پتے؛ پتی، پتیاں، پات
پِتّہ
پتھر، پتھری، پتھریلا، پتھریلی، پتھریلے؛ پتھراؤ
پتی، پتنی
پتیلہ/ پتیلا، پتیلی
پٹ؛ چوپٹ
پٹاخہ
پٹارا، پٹاری
پٹخنا؛ پٹخنی
پٹرول؛ پٹرول پمپ/ بم
پٹری
پٹکہ/ پٹکا

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پٹکنا، پٹکا، پٹکی، پٹکے، پٹک

پٹواری؛ پٹہ

پٹہ، پٹی، پٹیاں

پٹھا

پٹھان، پٹھانی

پچارا

پچر

پچکاری

پچکنا، پچکا، پچکی، پچکے، پچک

پچھاڑنا، پچھاڑا، پچھاڑی، پچھاڑ؛ پچھاڑی؛ پچھاڑیں

پچھلا، پچھلی، پچھلے، پچھلوں؛ پچھل پائی

پچھم؛ پچھمی

پچھواڑا

پخ

پخت؛ پختہ؛ پختگی

پدر؛ پدری؛ پدریت

پدم؛ پدمنی

پذیرائی

پر (حرف)

پر (پرندے کا رُواں اور بازو)

پرا، پرے

پراپرٹی؛ پراپرٹی ڈیلر

پرات

پراٹھا/ پروٹھا/ پرونٹھا

پراجیکٹ؛ پراجیکٹ ڈائریکٹر

پراکرت؛ پراکرتی

پراکسی؛ پراکسی وار

پراگندہ؛ پراگندگی

پرانا، پرانی، پرانے، پرانوں

پراندہ

پرائز؛ پرائز بانڈ

پرائمری

پرائیویٹ

پرایا، پرائی، پرائے، پرایوں

پربت

پرت

پرتال/ پڑتال

پرتو/ پرتوا

پرتیت

پرجا

پرچار؛ پرچارک

پرچم

پرچون، پرچونی، پرچونیا

پرچہ، پرچی

پرچھاوں، پرچھائیں

پرخاش

پرخچے

پردہ

پردھان

پرزہ، پرزے، پرزہ جات

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پرس (Purse)

پرس (ضمہ پ)؛ پرسہ؛ پرساں؛ پرسانِ حال

پرستش، پرستار؛ پرست

پرکاش

پُرکھا، پُرکھے

پرکھنا، پرکھا، پرکھی، پرکھے، پرکھ؛ جانچ پرکھ

پرلا، پرلی، پرلے

پرنا؛ پرنانا

پرنٹ؛ پرنٹر؛ پرنٹ آؤٹ؛ پرنٹ میڈیا؛ پرنٹنگ پریس

پرندہ؛ پرواز

پرنسپل

پرو؛ پروامریکن، پروانڈین

پروا

پروانہ (خط؛ پتنگا)

پروٹوکول

پروپیگنڈا/ پراپیگنڈا

پروردگار؛ پرورش

پروف؛ پروف ریڈر، فائنل پروف

پروفائل؛ لو/ ہائی پروفائل

پروفیسر؛ پروفیسری

پروفیشنل

پروگرام؛ پروگرامر؛ پروگرامنگ

پروموشن

پرونا، پرویا، پروئی، پروئے، پرو

پروہت؛ پروہتی

پرہیز؛ پرہیزی؛ پرہیزگاری

پری؛ پرستان

پری پیڈ/ پوسٹ پیڈ

پریڈ؛ پریڈگراؤنڈ

پریزنٹیشن

پریس؛ پریس سیکرٹری، پریس کاپی، پریس کانفرنس

پریشان؛ پریشانی

پریشر؛ پریشر گروپ/ ککر

پریکٹیکل

پریم؛ پریمی

پڑاؤ

پڑنا، پڑا، پڑی، پڑے، پڑ؛ پڑیل

پڑوس؛ پڑوسی، پڑوسن

پُڑیا، پڑیاں؛ پڑی

پڑھانا، پڑھایا، پڑھائی، پڑھائے، پڑھا؛ پڑھنا، پڑھا، پڑھی، پڑھے، پڑھ؛ پڑھاکو

پس؛ پس ماندہ/ نوشت/ منظر/ پا/ پائی/ رو/ خوردہ، پسِ آئینہ/ پردہ

پست؛ پستی

پستان؛ پستانیہ جانور

پسرنا

پسلی، پسلیاں؛ ہڈی پسلی

پسنا، پسا، پسی، پسے، پس؛ پسانا/ پسوانا؛ پسائی/ پسوائی

پسند؛ پسندیدہ، پسندِ خاطر

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پسندہ، پسندے

پسو

پسیجنا

پسینہ

پشت: پشتارہ؛ پشتہ، پشتہ بندی، پشتیبانی، پشت پناہی

پشمینہ

پشیمان؛ پشیمانی

پک اپ

پکّا، پکّی، پکّے

پکارنا، پکارا، پکاری، پکارے، پکار؛ ہانکا پکار

پکانا، پکایا، پکائی، پکائے، پکا؛ پکنا، پکا، پکی، پکے،
پک؛ پکوانا، پکوایا، پکوائی، پکوائے، پکوا؛
پکوان؛ پکوائی

پکڑانا، پکڑایا، پکڑائی، پکڑائے، پکڑا؛ پکڑنا، پکڑا،
پکڑی، پکڑے، پکڑ؛ پکڑان؛ پکڑائی؛ پکڑن
پکڑائی

پکنک

پکوڑا

پکھراج

پکھیرو

پگ، پگڑ، پگڑی

پگڈنڈی

پگنا

پگھلنا، پگھلا، پگھلی، پگھلے، پگھل

پل (فتح پ: لمحہ)

پُل (ضمہ پ: دریا یا کھائی پر بنا راستہ)

پلازمہ/ پلازما

پلازہ

پلاسٹر آف پیرس

پلاسٹک؛ پلاسٹک سرجری

پلانٹ

پلاننگ

پلاؤ

پلپلا، پلپلی، پلپلے؛ پلپلا پن

پلٹنا، پلٹا، پلٹی، پلٹے، پلٹ؛ پلٹا

پلّر (Pillar)

پلڑا

پلستر

پلک، پلکیں

پلّا

پلّہ، پلّے؛ پلّو

پلنا، پلا، پلی، پلے، پل

پلنگ؛ پلنگ پوش

پلیتھن

پلیٹ، پلیٹیں

پلید؛ پلیدی

پلیز

پلیگ

پمپ؛ واٹر پمپ، پٹرول پمپ

پناہ

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پنبہ

پُنپنہ

پنتھ؛ پنتھی

پنجاب؛ پنجابی، پنجابن؛ پنجابی (زبان)؛ پنجابیت

پنجرہ، پنجرے

پنجہ، پنجے

پنچ؛ پنچایت؛ پنچایتی؛ سرپنچ

پند؛ پندنامہ، پندِ سودمند

پنڈا

پنڈال

پنڈت، پنڈتانی؛ پنڈتائی

پنڈوراباکس

پنڈولم

پنسار؛ پنساری، پنسارن

پنسل؛ بال پوائنٹ پنسل، پنسل تراش

پنشن؛ پنشنر

پنکھ، پنکھڑی؛ پنکھا

پنگا

پِتنا

پُتنا

پنہاں؛ پنہائی

پنیر

پوپلا، پوپلی، پوپلے

پوتا، پوتی

پوتڑا، پوتڑے

پوتھی

پوٹ (وج)

پوٹلی

پوجنا، پوجا، پوجی، پوجے، پوج؛ پوجا/ پوجا پاٹ؛
پجاری، پجارن

پوچ

پوچہ/ پوچا

پوچھنا، پوچھا، پوچھی، پوچھے، پوچھ؛ پوچھ پاچھ

پود؛ پودا؛ نئی پود

پودینہ

پور (وج)

پورا، پوری، پورے

پورب؛ پوربی

پوری (حلوہ پوری)، پوریاں

پوست؛ پوستی

پوسٹ؛ پوسٹ کارڈ، پوسٹ آفس، پوسٹ ماسٹر؛
پوسٹل سروس

پوش؛ پوشاک؛ پوشش

پول (وج)

پولا، پولی (وج)

پولی؛ پولی ٹیکنیک/ کلینک/ فونک

پولیس؛ پولیس سٹیشن/ فورس/ ایکشن/ لائنز/ مین

پولیو

پوَن

پونجی

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پونچھنا
پہاڑ؛ پہاڑی؛ پہاڑیا
پہچاننا، پہچانا، پہچانی، پہچانے، پہچان؛ جان پہچان
پہر
پہرہ
پہلا، پہلی، پہلے؛ پہل، پہلے پہل
پہلو
پہلوان؛ پہلوانی
پہلوٹھا، پہلوٹھی (نیز پہلونٹھا)
پہنچنا، پہنچا، پہنچی، پہنچے، پہنچ
پہننا، پہنا، پہنی، پہنے، پہن؛ پہنانا، پہنایا، پہنائی، پہنائے، پہنا؛ پہناوا
پہیہ، پہیے
پی/ پیا
پی ایچ ڈی
پے؛ پے آرڈر/ سلپ/ رول/ ڈے، پے منٹ
پیادہ
پیار؛ پیارا، پیاری، پیارے، پیاروں؛ پیار محبت
پیاز؛ پیازی؛ دو پیازہ
پیاسا، پیاسی، پیاسے، پیاس؛ پیاسا کوا
پیالہ، پیالی، پیالے، پیالیاں
پیام؛ پیامی؛ پیام بر
پیانو
پیپ
پیپر (امتحانی سوالات؛ کاغذ)

پپیہ/ پپیا
پپیل
پیت/ پریت؛ پتیم/ پریتم
پیتل
پیٹ؛ پیٹو؛ پیٹی (پیٹ پر باندھنے کا تسمہ)
پیٹنٹ
پیٹھ؛ پٹھو
پیچ، پیچاں، پیچواں؛ پیچیدہ، پیچیدگی
پیچھا؛ پیچھے
پیدا؛ پیدائش؛ پیداوار
پیدل
پیر (ی مع، مذہبی رہنما)، پیرنی/ پیرانی؛ پیری، پیرانہ
پیر (ے مج، عضوِ بدن)
پیرا؛ پیراشوٹ/ میڈیکل/ ملٹری
پیراستہ
پیراگراف
پیرایہ
پیرو؛ پیروی، پیروکار
پیروڈی
پیڑھا، پیڑھی، پیڑھے
پیزا (Pizza)
پیس؛ لیگ پیس، چیسٹ پیس، چکن پیس، ماسٹر پیس (نیز بمعنی کپڑا یا سوٹ کا کپڑا، بیچنے یا دکھانے کی کوئی خاص چیز، لڑکی)

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پیس میکر

پینا، پیسا، پیسی، پیسے، پیس

پیسہ

پیش؛ پیشی؛ پیشرو

پیش کار

پیشاب

پیشانی

پیشواز

پیشہ؛ پیشہ ور

پیغام؛ پیغام بر/ پیغمبر

پیک (ی مع)

پیکار

پیکٹ؛ پیکنگ

پیکج؛ پیکج ڈیل/ آفر

پیکر

پیلا، پیلی، پیلے (ی مع)

پیلنا، پیلا، پیلی، پیلے، پیل (ے مج)

پیلو

پیمان؛ عہد و پیمان

پیمانہ؛ پیمائش

پین (قلم)

پینا، پیا، پی، پیے؛ پیوٹ

پینڈا

پینگ؛ پینگنا

پیوست؛ پیوستہ؛ پیوستگی

پیوند؛ پیوندی

پیہم

پھ

پھاٹک

پھاڑنا، پھاڑا، پھاڑی، پھاڑے، پھاڑ؛ پھٹنا، پھٹا، پھٹی، پھٹے، پھٹ؛ پھٹ پڑنا، پھٹی پڑتی جوانی

پھاڑی

پھاگ

پھاندنا، پھاندا، پھاندی، پھاندے، پھاند؛ کود پھاند

پھانسنا، پھانسا، پھانسی، پھانسے، پھانس؛ پھنسانا، پھنسایا، پھنسائی، پھنسائے، پھنسا؛ پھنستا، پھنسا، پھنسی، پھنسے، پھنس؛ پھنساوٹ

پھانسی

پھاوڑا

پھبتی

پھبن؛ پھبنا

پھپھولا

پَھٹکار (پٹخنا)

پِھٹکار (بے رونقی)

پھٹکی

پھٹیچر

پھدکنا، پھدکا، پھدکی، پھدکے، پھدک

پھڈا؛ پھڈے باز

© rasailojaraid.com

© rasailojaraid.com

پھِر

پھُر

پھرانا، پھرایا، پھرائی، پھرائے، پھرا؛ پھرنا، پھرا،
پھری، پھرے، پھر؛ پھرناٹرنا

پھریرا؛ پھریری

پھڑ، پھڑیں؛ پھڑیں مارنا

پھڑکانا، پھڑکایا، پھڑکائی، پھڑکائے، پھڑکا؛ پھڑکنا،
پھڑکا، پھڑکی، پھڑکے، پھڑک

پھس

پھسڈی

پھسلانا؛ پھسلاہٹ

پھسلنا، پھسلا، پھسلی، پھسلے، پھسل؛ پھسلواں

پھکڑ؛ پھکڑ باز

پھکی

پھل؛ پھلی، پھلیاں

پُھلکہ/ پُھلکا، پھلکی، پُھلکاری

پھن؛ پھنپھنانا، پھنپھناہٹ

پھندا، پھندے

پھنسی

پھننگ

پھوار/ پھوہار

پھوپھا/ پھوپا/ پھپھا، پھوپھی/ پھوپی/ پھپھی؛ پھپھیا

پھوٹنا، پھوٹا، پھوٹی، پھوٹے، پھوٹ

پھوڑا

پھوک/ پھوکٹ

پھول؛ پھلواری

پھولنا، پھولا، پھولی، پھولے، پھول

پھونس؛ پھونسڑا، پھونسڑی، پھونسڑے

پھونک؛ پھونکنا؛ پھنکار؛ پھنکارنا

پھوہڑ؛ پھوہڑپن

پھیر؛ پھیرا، پھیری، پھیرے

پھیکا، پھیکی، پھیکے

پھیلانا، پھیلایا، پھیلائی، پھیلائے، پھیلا؛ پھیلنا،
پھیلا، پھیلی، پھیلے، پھیل

پھینکنا، پھینکا، پھینکی، پھینکے، پھینک

© rasailojaraid.com